

بائیولوچی

www.ilmwala.com

باپ نمبر: 1

BIOLOGY

1۔ سائنس کیا ہے؟

سائنس میں قدرتی دنیا کے رازوں کو دریافت کرنے میں مددویتی ہے۔

فیضیت کو سمجھنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔

ہم مشاہد اور تجربہ کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ ہمیں محتاج مطالعے کے ذریعے حقائق اور وضاحتیں تلاش کرنے میں مددویتی ہے۔

Biology-2. اور اس کی شناخت

Biology زندگی کا علم ہے۔

لفظ "Biology" ویوائی الفاظ سے نکلا ہے:

o جس کا مطلب ہے زندگی "Bios"

o جس کا مطلب ہے مطالعہ "Logos"

Biology جانداروں کی ساخت، انفعال اور باہمی تعاملات کا مطالعہ کرتی ہے۔

یہ ہمیں صحت، خوارک اور ماحول سے متعلق اہم سائل کو سمجھنے میں مددویتی ہے۔

Biology-3. کی بڑی شناخت

Zoology-i.

• جانوروں کا مطالعہ، ان کی ساخت، انفعال، روپیہ اور تجویز۔

Botany-ii

- پروٹوکاریوٹس کا مطالعہ، جن میں ان کی ساخت، افراکش، تولید اور ماہول سے تعلق شامل ہے۔

Microbiology - iii

- خوردینی چاندروں چیز کے بیکثیر یا اور فوجائی کا مطالعہ۔
- ان کی ساخت، افعال، رہائش گاہیں، تولید اور محنت و ماہول پر اثرات کا جائزہ۔

Biology کی شاخیں اور ذیلی شعبے

4 - Morphology .

- چاندروں کی ظاہری اور باطنی ساخت کا مطالعہ۔
- اس میں بیرونی خصوصیات (مثل، رنگ، انداز) اور اندرینی اعضا شامل ہوتے ہیں۔

Anatomy -- 5

- جسم کی اندرینی ساخت، خاص طور پر انسانوں میں، کا مطالعہ۔
- بنیاربیوں کی تشخیص، طبی آلات کی تیاری، اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔

6 - Physiology

- جسمانی اعضا کے افعال کا مطالعہ۔
- مثال: خون کا نظم مختلا اور آسمجھن کیسے پہنچانا ہے۔

7 - Histology

- ٹیکڑوں (ہم جنس خلیات کے گروپ) کا خوردینی مطالعہ۔
- بنیاربیوں کی تشخیص، دواؤں کے تجربات اور اعضا کے افعال سمجھنے کے لیے اہم۔

8 - Cytology

- خلیات، جوزدمگی کی بنیادی اکائی ہیں، کا مطالعہ۔

۱۰۔ اس میں خلیہ کی ساخت، انعامات اور تقسیم شامل ہیں۔

۱۱۔ انسانی جسم میں 30 ٹریلیون سے زیادہ خلیات ہوتے ہیں، ہر ایک کا مخصوص کردار رکھتا ہے۔

Molecular Biology -- 9

• حیاتیاتی مانگنیو لرجیسے پروٹین، پچنا یاں، ٹکڑا اور DNA کا مطالعہ۔

• زندگی کے عمل کو سمجھنے، ادیلات بنانے، اور جینیاتی طور پر تجدیل شدہ چاند ارتیار کرنے میں مدد ویتی ہے۔

Embryology -- 10

• ایک نسل سے بچے (چاندرا) کی آشونوں کا مطالعہ۔

• پیدائشی نفاس کو پیچانے اور علاج کو بہتر بنانے میں مددگار۔

Genetics -- 11

• صفات والدین سے اولاد میں منتقل ہونے کا مطالعہ۔

• موجودی پیارپوں کی وضاحت اور پودوں و جانوروں کی بہتری میں مددگار۔

Palaeontology -- 12

• قدیم چاندروں کی باقیات (فوسلز) کا مطالعہ۔

• زمین پر زندگی کی ارتقائی تاریخ تاتائی ہے۔

• مثال: ڈائیا سورز کے فوسلز قدیم ریگنے والے جانوروں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔

Taxonomy -- 13

• چاندروں کا ان کی مماثلوں اور اختلافات کی بنیاد پر دوچھہ بندی کرنے کا علم۔

• اقسام کو مشتمل کرنے، نئی اقسام دریافت کرنے اور ان کے تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

Ecology - 14

*Ecology جانداروں اور ان کے محیل کے درمیان باہمی تعلقات کا مطالعہ ہے۔

اہمیت:

• حیاتیاتی تنویر (ایوناٹیورسٹی) کے تحفظ میں مددویتی ہے۔

• محیلیاتی مسائل کو حل کرنے میں مددویتی ہے۔

مثال: خوارک کی زنجیر (فوڈ چین) دکھلتی ہے کہ جانوراں کو خوارک اور قنائی کے لیے انحصار کرتے ہیں۔

Marine Biology - 15

*Marine Biology سمندری زندگی کا مطالعہ ہے۔

اہمیت:

• سمندر میں زندگی اور نبیجی مخلوقات کو بحث میں مددویتی ہے۔

• سمندروں کے تحفظ میں مددویتی ہے۔

مثال: مرجان (کول) چنانی مخالف اقسام کی سمندری جیات کی پناہ گاہ ہیں۔

Pathology - 16

*Pathology پیاریوں، ان کی وجوہات اور اڑات کا مطالعہ ہے۔

اہمیت:

• ڈاکٹر زکوپیاریوں کی تشخیص اور علاج میں مددویتی ہے۔

مثال: *Pathologist کینسر کے جسم میں پیلاوہ کا مطالعہ کرتا ہے۔

Immunology - 17

*Immunology محفوظی نظام اور اس کی پیاریوں سے لڑنے کی صلاحیت کا مطالعہ ہے۔

اہمیت:

• ووکسین بنانے میں مددویتی ہے۔

• محفوظی نظام کی خراپیوں کے علاج میں مددگار۔

مثال: یکیں جسم کو از سرچسے فوایا COVID-19 سے لانے کے قابل ہاتھی ہے۔

Pharmacology – 18

Pharmacology داؤں اور ان کے جسم پر اثرات کا مطالعہ ہے۔

اہمیت:

دنی وائسیں ہانے میں مددویتی ہے۔

مثال: انسنی بائیکس بیکنیر یا کوٹم کر کے انگلیس کا علاج کرتی ہیں۔

Biology – 1.2

Biology کا دیگر سائنسی علوم سے تعلق
Computer, Math, Earth Science, Physics, Chemistry اور
Science سے ہوتا ہے۔ یہ تعلقات ایسیں جانداروں کو کھینچنے میں مددویتی ہیں۔

اہم شناختیں:

Biochemistry – 19

جانداروں میں کیمیائی مادوں اور کیمیائی تعلقات کا مطالعہ۔

مثال: فوٹو منٹھیر اور تنفس کا عمل۔

Biophysics – 20

جسمانی حرکات کو کھینچنے کے لیے فزکس کے صدروں کا استعمال۔

مثال: پنجوں اور ہڈیوں کی حرکت کو لیو را صول کے ذریعے سمجھنا۔

Computational Biology – 21

حیاتی مسائل کے حل کے لیے کمپیوٹر اور ریاضی کا استعمال۔

مثال: پرتوئین میں ایمو ایڈز کی ترتیب معلوم کرنا۔

Biogeography – 22

• جانداروں کے دنیا میں پائے جانے کے مقامات کا مطالعہ۔
• مثال: موسم کی تبدیلی کیسے جانوروں اور پودوں کے علاقوں کو متاثر کرتی ہے۔

Biostatistics – 23

• جانداروں اور صحت سے متعلق معلومات کا شماریاتی تجزیہ۔

• مثال: تحقیق اور پیکار، ایجنسی میں ذیبا کا تجزیہ۔

Biotechnology – 24

• جانداروں کا استعمال کر کے مفید اشیاء بنانا۔

• مثال: ذیبا بٹس کے علاقے کے لیے یونیورسٹی سے انسولین بنانا۔

Bioeconomics – 25

• حیاتیات کو کاروباری نقطہ نظر سے دیکھنا۔

• مثال: بیضوں کی پیداوار کی لگت اور منافع کا حساب لانا۔

Biology – میں کیریئر کے موقع

• کے طلباء زندگی کے علوم (Life Sciences) میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، خاص طور پر FSc

(Medical-Pre) مکمل کرنے کے بعد مختلف شعبوں میں کیریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

** کیریئر کے موقع:

Medicine and Surgery – 26

• ڈاکٹر پیاریوں کی تشخیص اور علاج کرتے ہیں۔

• مسرجن خراب یا ناکارہ جسمانی حصوں کو درست یا اصلاح تھے ہیں۔

• تقاضا: 5 سالہ MBBS ڈگری۔

Dentistry – 27

- مانسوس اور مرد کی دیکھ بھال کرنے والا شعبہ۔
- تقاضا: 4 سالہ BDS ڈگری۔

Pharmacology – 28

- دواؤں کے اثرات کا مطالعہ کرنے والا شعبہ۔
- تقاضا: (D. Pharm) Doctor of Pharmacy in Pharmacy BS۔

Physiotherapy – 29

- مریضوں کو پوچھت یا پیاری کے بعد حرکت بحال کرنے میں مدد ہے والا شعبہ۔
- تقاضا: 4 سالہ in Physical Therapy BS۔

Fisheries and Wildlife – 30

- مچھلیوں اور جنگلی جانوروں کا مطالعہ اور تحریک۔
- تقاضا: Aquaculture in Fisheries in Zoology MS/BS۔

Agriculture – 31

- زراعت اور فصلوں کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے کام۔
- تقاضا: 4 سالہ in Agriculture BS۔

Animal Husbandry – 32

- جانوروں کی نگهداری اور ان کی صحبت و پیداوار میں بہتری۔
- تقاضا: 4 سالہ in Animal Husbandry BS۔

Horticulture -- 33

• چالوں، بزریوں، پھالوں اور سبادوں کی کاشت۔

• تقاضا: 4 سالہ BS in Horticulture

Forestry -- 34

• جنگلات اور جنگلی حیات کا تخطیف اور انتظام۔

• تقاضا: 4 سالہ BS in Forestry

Farming -- 35

• جانور پالنا اور فصلیں آگانا۔

• مختلف اقسام کی فارمگ: اپنے فارم، پلٹری فارم، فروٹ فارم۔

• تقاضا: BS in Agriculture یا فارمگ کو سز۔

Biotechnology -- 36

• جامداؤں (مثلاً بیکٹیری یا لیخیات) کو استعمال کر کے مفید صنعتیات تیار کرنا (جیسے دویات یا فصلیں)۔

• تقاضا: 4 سالہ BS in Biotechnology

1.4 - مطالعہ حیات سے متعلق قرآنی بدایات

*قرآن مجید * انسانوں کو خور و لکھر، مشاہدہ اور زندگی کی تخلیق پر تذکرہ کی گوت رہتا ہے۔
یہ زندگی کے آغاز اور نشوونما کے مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

38. - زندگی کے پانی سے آغاز ہے:

"اور ہم نے ہر جاندار حیز کو پانی سے پیدا کیا۔"

* (سورۃ الانبیاء، آیت 30)

وضاحت:

یہ آہت تاتی ہے کہ تمام جاندار مخلوقات پانی سے پیدا ہوئیں۔
پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور ہر جاندار کی تخلیق میں شامل ہے۔ ان کے جسم کا 60% سے 90% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔

39. - انسان کی مٹی سے تخلیق پر آہت:

"اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جسے کہہا رہتی کا برتن ہاتا ہے۔"

* (سورۃ الرعد، آیت 14)*

وضاحت:

یہ آہت انسان کی ابتدائی تخلیق کے لیے مٹی کو ذریعہ تاتی ہے۔
یا ایک قدرتی مادہ ہے، جو انسان کے جسم کی بنیادی تخلیقیں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

40. - رحم مادر میں نشوونما کے مراحل پر آہت:

"پھر ہم نے اخفف کو جہا ہوا خون بنایا، پھر ہم نے خون کے لوزرے کو گوشت کا لوزرہ بنایا، پھر ہم نے گوشت کے لوزرے کو بڈیاں بنایا، پھر
ہم نے بڈیوں پر گوشت چڑھایا۔"

* (سورۃ المزمل، آیت 14)*

وضاحت:

یہ آہت انسان کی رحم مادر میں تخلیق کے مختلف مراحل کو وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ نطفے سے کامل جسم بننے تک۔
یہ حیاتیاتی نشوونما کی سچائیوں کی عکاسی کرتی ہے۔

41. - جانوروں کے ارتقا پر آہت:

"اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل پڑتے ہیں، کچھ دوپاؤں پر اور کچھ چارپاؤں پر۔ اللہ جو
چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

* (سورۃ النون آیت 45)*

وضاحت:

یہ آہت تاتی ہے کہ جانور بھی پانی سے تخلیق کیے گئے،

پھر ان کی مختلف اقسام ہیں:

- کچھ ریگنے ہیں (جیسے سانپ)
 - کچھ دوپاؤں پر چلتے ہیں (جیسے انسان اور پرندے)
 - کچھ چارپاؤں پر (جیسے گائے اور شیر)
- یہ آہت حیاتیاتی نوع (common origin) اور مشترک آغاز (diversity) کی تائید کرتی ہے۔

42- سائنس ایک اجتماعی (مشترک) میدان

- سائنس میں ٹیم ورک (Teamwork) کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مختلف شعبوں کے سائنسدانوں نے مسائل کو حل کرتے ہیں۔

اجتیاحی کام کی مثالیں:

Human Genome Project •

Genetics، Computer Science، Biology کے ماہرین نے مل کر انسان کے تمام جیبر کا مطالعہ کیا۔

Climate Change Research •

اس میں موکی ماہرین، محولیاتی ماہرین، اور ماہرین اقتصادیات شامل ہوتے ہیں۔

Medical Research •

اس میں فاکٹروں، ماہرین حیاتیات، کیمیٰ اور دیناں سائنسیت کی شراکت ہوتی ہے۔

Robotics & Artificial Intelligence •

کمپیوٹر ماہرین، انجینئرنگ، ریاضی دان، اور دماغی سائنسدان اس میں حصہ لیتے ہیں۔

Space Exploration (خالی تحقیق) •

NASA اور ISS نے اس کا علم استعمال کرتے ہیں کہ خلا کا مطالعہ کیا جائے۔

43۔ سائنسی طریقہ کار (Biological Method)

سائنسدان مسائل حل کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ استعمال کرتے ہیں، اسے *Biological Method* یا *Scientific Method* کہا جاتا ہے۔

44۔ سائنسی طریقہ کار کے مرحلے:

1۔ مسئلے کو پیچانا

ایسا سوال تلاش کرنا جو مطالعے کے قابل ہو۔

مثال: یہ پودے دوسرے پودوں سے زیادہ لمبے کیوں ہو رہے ہیں؟

2۔ مشاہدہ (Observation)

جو کچھ ہو رہا ہے اسے خوب سے دیکھنا

3۔ ہائپو تھیس (Hypothesis)

ایک سمجھدار ادا نما ہمکن جواب دینا۔

4۔ ذیکش (Deduction)

اگر ہائپو تھیس درست ہو تو کیا ہوا چاہیے

5۔ تجربہ (Experiment)

ہائپو تھیس کو قسمی زندگی میں جا چخنا۔

6۔ نتائج (Results)

یہ دیکھنا کہ ہائپو تھیس درست ہوتا ہے یا نہیں۔

- ۴۵۔ رائنسی طریقہ کار کے مرحلے کی وضاحت:

i.- مسئلے کی پہچان (Recognition of a Problem)

• سائنسدان کچھ غیر معمولی چیز دیکھتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے۔

• مثال: کچھ پودے معمول سے زیادہ بیج کیوں ہیں؟

ii.- مشاہدہ (Observations)

• سائنسدان مسئلے کا مشاہدہ ہائچی جو اس کے ذریعے کرتے ہیں۔

*: صفاتی مشاہدہ (جیسے رنگ، شعل)

*: مقداری مشاہدہ (جیسے اونچائی، مقدار)

• مقداری ذیل ایجاد درست ہوتا ہے کیونکہ اسے ناپا جاسکتا ہے۔

iii.- ہائپو تھیس (Hypothesis)

• قیاس ایک ممکن جواب ہوتا ہے جو مشاہدہ اور راستہ علمی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔

• اسے چانچا اور خلطناہت کیا جاسکتا ہے۔

iv.- ڈیکشن (Deduction)

• اخذ ایک مطلق پیش گوئی ہوتی ہے جو ہائپو تھیس پر منی ہوتی ہے۔

• میا کرہ "اگر تو" (If-Then) یا نایہ ہوتا ہے۔

• مثال: اگر میں آڑن کی کمی ہے تو آڑن نالے سے پورا ہتر ہو جے گا۔

v.- تجربہ (Experiment)

• سائنسدان تجربے کے ذریعے ہائپو تھیس کو جائز ہے۔

• استعمال ہوتے ہیں:

*: خاص حالت کے ساتھ ($\text{خالی} \text{CO}_2$ کے)

*: عام حالت کے ساتھ ($\text{ملا} \text{CO}_2$ کے ساتھ)

درست ہاپوچیس قبول کیا جاتا ہے، غلط کو رد کر دیا جاتا ہے۔

vi- نتائج (Results)

ڈینا کو چارٹ یا گراف کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔

مناج کو روپنوں، سکلوں یا سائنسی اجلاسوں میں پیش کیا جاتا ہے۔

51. نظریہ (Theory) اور قانون (Law)

* ماپوچیس (Hypothesis) ہوتی ہے جو کئی تجربات سے جانپی جاتی ہے اور درست ناہت ہوتی ہے۔

مثال: *Theory of Evolution (ارث کا نظریہ)

*Principle یا *Law نظریہ ہوتا ہے جو ابشار ناہت ہو اور کسی غلط نہ لکھ۔

مثال: Mendels Laws of Inheritance (واراثت کے مبنی قوانین)

52. مثال: ملیریا — جاتی آنی طریقہ کا کام استعمال

مسئلہ: ملیریا کس وجہ سے ہوتا ہے؟

مشہدات:

Quinine والی ملیریا کا علاج کرتی ہے۔

ملیریا ولدی علاقوں کے قریب زیادہ پایا جاتا ہے۔

ولدی بانی سے ملیریا نہیں پھیلتا۔

مریخیوں کے خون میں *Plasmodium* کی جگہ پایا گیا۔

ہاپوچیس *Plasmodium* ملیریا کا سبب ہے۔

ذیکر: اگر یہ قیاس درست ہے، تو ہر ملیریا مریخی کے خون میں *Plasmodium* ہوا جائے۔

تجربہ

- 100 یا اور 100 صحت مند افراد کا خون جانچا گیا۔
- نتیجہ: زیادہ طبع ریاضتوں کے خون میں *Plasmodium* موجود تھا، جبکہ صحت مند افراد میں نہیں تھا۔

نتیجہ: ہائپو ٹیسٹ درست ثابت ہوا۔

53. بائیو لو جیکل پر بلجنبر 2 : Plasmodium انسانی خون میں کیسے ہوتا ہے؟
- ایک سم کا جو اسائٹ (parasite) ہے جو طبع ریاضتی پھیلا کرتا ہے۔

اہم نکات:

54. مشاہدات (1883, A.F.A. King):
- جو لوگ کھلی جو سوت تھے، انہیں طبع ریاضتی زیادہ ہوتا تھا۔
 - جو لوگ مجھر دانی استعمال کرتے تھے، انہیں کم ہوتا تھا۔
 - جو لوگ حومیں کے قریب سوت تھے، انہیں کم ہوتا تھا۔
 - ان مشاہدات سے اندازہ ہوا کہ طبع ریاضت کے ذریعے پھیلاتا ہے، نہ کہ مددی پانی پھیلتے۔

2. ہائپو ٹیسٹ:

- *Plasmodium* پھیلاتے ہیں اور طبع ریاضت کے پھیلاتوں میں شامل ہوتے ہیں۔

3. فلیکشن:

- اگر یہ ہائپو ٹیسٹ درست ہے، تو *Plasmodium* پھر وہ میں پایا جانا چاہیے۔

55. تجربہ (1880s, Ronald Ross):

- ایک ماہ *Anopheles* پھر کو طبع ریاضت کوکائے دیا گیا۔

• پھر کے بعد میں^{*} Plasmodium^{*} کی افزائش دیکھی گئی۔
مزید تجربات میں انسانوں کے بجائے چڑیوں (sparrows) کا استعمال کیا گیا۔
متاثر ہو پھر نے صحت مند چڑیوں کو کانا، اور انہیں لمبیریا ہو گیا۔
ٹابت ہوا کہ پھر^{*} Plasmodium^{*} کو لے کر پہنلاتے ہیں۔

حیثیت (1898، اطالوی ساخنہان):

• ایک متاثر ہو پھر نے صحت مند انسان کو کانا۔
وہ شخص لمبیریا میں بھلا ہو گیا۔
اس سے ٹابت ہوا کہ پھر لمبیریا انسانوں میں منتقل کرتے ہیں۔

نتیجہ:

پھر، خاص طور پر ماہ^{*} Anopheles^{*} Plasmodium^{*} پہنلاتے ہیں۔
یہ طریقہ ہے جس سے لمبیریا انسانوں کو ہوتا ہے۔